

دہم کلاس بیالوجی گیس پیپر ۲۰۲۳

تمام پنجاب بورڈ کے لیے۔ لاہور۔ ساہیوال۔ بہاولپور۔ ملتان۔ گجرانوالہ۔ سرگودھا۔ فیصل آباد۔ روالپنڈی۔
ڈیرہ غازی خان۔ آزاد کشمیر۔

باب 10 : گیسوں کا تبادلہ

مختصر سوالات : تنفس اور سیلولر ریسپیریشن میں کیا فرق ہے؟ - ایک سٹومیٹا اور لیٹنیسی سیل میں آپ کس طرح تمیز کریں گے۔ سیلولر ریسپیریشن سے کیا مراد ہے۔
پودوں میں گیسوں کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے۔ لیرنکس کیا ہے؟ یہ کہاں واقع ہوتا ہے۔ 6- اکیوٹ برونکائٹس اور کرائٹک برونکائٹس میں فرق۔ نمونیا کیا ہے۔ اس کی
علامات لکھئے۔ نکوٹین کیا ہے۔ وائس باکس کیا ہے۔ لیٹنسل کی تعریف کریں۔ اویلر ڈکٹ کی تعریف کریں

تفصیلی جوابات : بورنکائٹس کیا ہے؟ اس کی اقسام بیان کریں اور اس کی علامت بھی تحریر کریں۔ ایفنی بیا کی وضاحت کریں۔ سموکنگ کے برے اثرات کی وضاحت

باب 11 : ہومیوسٹیس

مختصر سوالات : ٹرانپاشن اور کنڈکشن میں فرق۔ سکولیت آرگنز کیا ہوتے ہیں؟ مثال دیں۔ ریٹیل ٹیوبول اور ریٹیل کارپسل سے کیا مراد ہے۔ پائپلس اور پیلووس سے کیا
مراد ہے۔ اوسموریگولیشن اور تھر مورگیولیشن سے کیا مراد ہے۔ زیروفائٹس اور ہائیڈروفائٹس سے کیا مراد ہے۔ کڈنی ٹرانسپلائٹ سے کیا مراد ہے۔ ریٹیل
کارنکس اور ریٹلا میڈولا فرق۔ پریشر فلٹریشن کی تعریف کریں۔

تفصیلی سوالات : نیفرن کی ساخت بیان کریں۔ گردے کا اوسموریگولینی فعل بیان کریں۔ ڈایالائسز سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو طریقوں کی وضاحت کریں۔ کڈنی
ٹرانسپلائٹ کی وضاحت کریں۔

باب 12 : کواڈری نیشن اور کنٹرول

مختصر سوالات : ریفلیکس ایکشن اور ریفلکس آرک کی تعریف۔ کورآرڈینیشن کا کام بیان کریں۔ ریسپنڈر اور ایفیکٹرز کا فرق۔ نرو امپلس کی تعریف۔
سنسری نروز اور موٹور نروز میں فرق۔ مالکن شیتھ سے کیا مراد ہے۔ آنکھ کے دو تقاضے کے نام۔ بلائینڈ سپاٹ سے کیا مراد ہے۔ انسولین اور گلوکواگون
کے افعال کا موازنہ کریں۔ فالج کیا ہے؟ اس کی وجوہات لکھئے۔

تفصیلی سوالات : نیوران کی ساخت بیان کریں۔ پریفرل نروس سسٹم کی وضاحت۔ تھائی رائیڈ گلیٹنڈ کی وضاحت کریں

باب 13 : سہارا (سپورٹ) اور حرکت

مختصر سوالات : کارٹیج اور ہڈی میں فرق۔ اوسٹیویروس اور آرتھرائٹس میں کیا فرق ہے۔ لوکوموشن اور سکیٹل سسٹم کے درمیان فرق۔ اینڈوسکیٹلن اور ایکسوسکیٹلن میں فرق۔
بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ کی تعریف۔ ہنج جوائنٹس کیا ہوتے ہیں۔ جوائنٹ کی تعریف اور اس کی اقسام کے نام۔ فلیکشن اور ایکٹیشن میں فرق۔ آرتھرائٹس کیا ہے؟ اس کا علاج کیسے
کیا جاتا ہے۔ ریو ماڈ آرتھرائٹس سے کیا مراد ہے۔

تفصیلی سوالات : کارٹیج کی تعریف کریں۔ اس کی اقسام کی وضاحت کریں۔ آرتھرائٹس کیا ہے؟ اس کی اقسام کی وضاحت کریں۔

باب 14 : ریپروڈکشن

مختصر سوالات : سسٹ کے کہتے ہیں۔ ملٹی پل فشن سے کیا مراد ہے۔ فرٹیلمیشن سے کیا مراد ہے۔ ایک مثال۔ پارٹیو جنیسیس کی تعریف کریں اور مثال سکریز کیا ہیں ایک مثال دیں۔ کلوننگ سے کیا مراد ہے۔ ڈبل فرٹیلائزیشن سے کیا مراد ہے۔ پولی نیشن کی تعریف کریں۔ اور اس کی اقسام۔ کراس پولی نیشن سے کیا مراد ہے۔ اپوی جنیل اور ہاپوجنیل کے درمیان فرق۔ سپومیٹوگونیا اور اووگونیا کی تعریف کریں۔ STDs سے کیا مراد ہے۔ HIV کس کا مخفف ہے۔

تفصیلی سوالات : پھولدار پودوں میں سیکسول ریپروڈکشن کی وضاحت۔ بیج کی جرمی نیشن کے لیے ضروری شرائط۔ مادہ خرگوش کے ریپروڈکٹو سسٹم کی وضاحت۔

باب 15 : وراثت

مختصر سوالات : جینومائپ اور فینوٹائپ کی تعریف۔ ڈومینٹ اور ریسیسو ایلیر کیا ہوتے ہیں۔ ہوموزائیکس اور ہیٹروزائیکس سے کیا مراد ہے۔ مصنوعی اور قدرتی چناؤ میں فرق۔ جنٹیکس کی تعریف۔ جنز کی تعریف۔ مینڈل کالاف سیکریشن بیان کریں۔ کوڈومینٹس کی تعریف۔ قدرتی چناؤ سے کیا مراد ہے۔ بریڈز اور کلنی ریز میں فرق۔

تفصیلی سوالات : کروموسوم کا DNA کس طرح کام کرتا ہے؟ وضاحت کریں۔ مینڈل کالاف آف سیکریشن بیان کریں۔

باب 16 : انسان اور اس کا ماحول

مختصر سوالات : فوڈ چین اور فوڈ ویب میں فرق۔ ایکولوجی اور کمیونٹی میں فرق۔ کارنی وورز اور ہربی وورز میں فرق۔ آٹوٹروف اور ہیٹروٹروف میں فرق۔ بائیونک اور اے بائیونک اجزا میں فرق۔ ایکٹو پراسائٹس اور اینڈو پیراسائٹس میں فرق۔ سمبی اوسس کی تعریف۔ میوچلرم کی تعریف اور مثال۔ میوچلرم اور کومن سلز میں فرق۔ گلوبل وارمنگ سے کیا مراد ہے اور اس کے اثرات بیان کریں۔ سموگ کیسے بنتی ہے اور اس کے دو نقصانات۔

تفصیلی سوالات : کاربن سائیکل کی وضاحت۔ پیراسائٹزم پر نوٹ۔ گلوبل وارمنگ پر نوٹ۔ THE 3R کا اصول کی وضاحت۔

باب 17 : بائیوٹکنالوجی

مختصر سوالات : ٹرانس جنیک جاندار کیا ہوتے ہیں۔ چین تھراپی سے کیا مراد ہے۔ الکلک فرمیشن سے کیا مراد ہے۔ فارمک ایسڈ کے دو استعمالات۔ جنیک انجیرنگ کے دو مقاصد۔ یورو کائینز کیا ہے؟ اس کا کام۔ تھائی موسن ہارمون کیا ہے؟ اس کا کام۔

تفصیلی سوالات : فرمیشن کے پانچ استعمالات تحریر کریں۔ جنیک انجیرنگ کے پانچ کارہائے نمایاں تحریر کریں۔

باب 18 : فارما کولوجی

مختصر سوالات : فارما کولوجی اور فارمیسی میں فرق۔ طبی دوا اور نشہ آور دوا میں فرق۔ اینل جیسک اور انٹی بائیوٹیک میں فرق۔ ناکروٹکس وریلو جنز میں فرق۔ میری جو انا کیا ہے؟ اس کا تعلق نشہ آور ادویات سے کون سے گروپ سے ہے۔ آئیوڈین ٹیکچر کا کیا ہے۔ اس کا استعمال۔ سیڈیٹوز کیا ہیں۔ ایک مثال۔ وسیع العمل اور محدود العمل اینٹی بائیوٹکس میں فرق۔ ویکسین کی تعریف۔

تفصیلی سوالات : طبی ادویات کے پانچ ذرائع بیان کریں۔ نشہ آور ادویات کی اقسام۔ ویکسین کی تعریف۔ ویکسینز کے کام کرنے کے طریقے۔ منشیات کی عادت اور اس سے متعلقہ مسائل بیان کریں۔